

Past Paper: (2020)

دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے جو قومی اور ملی مقاصد کی تشکیل و تکمیل کرتا ہے۔ اور قوم مطلوبہ مقاصد کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم وہ ہے کہ گہرے طور پر تربیت دے جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے۔ نظام تعلیم افراد کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے کہ افراد قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔

Translation:

The educational system of every nation is ^{aligned} compatible with the ^{behaviour} of that nation. and that builds and completes the national purposes. and the nation ~~do actions~~ ^{strives} for the desired purposes. ^{In fact,} the educational system of any nation is ^{such} ~~that~~ building system under ~~which~~ ^{that} it helps to ~~raise up~~ ^{raise} the mental capabilities and character building of the individuals of the nation. The educational system trains the individuals in such a way that they change the fate of the nation.

Such is paired with that. That/which is a wrong pair.